



اگر لوگوں کو ان کے دعویوں کی بنیاد پر دیا جائے تو کچھ لوگ، لوگوں کی جان اور مال تک کا دعوی کرنے لگیں لیکن، دعوی کرنے والے کو دلیل پیش کرنی ہے اور انکار کرنے والے کو قسم کھانی ہے

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: "اگر لوگوں کو ان کے دعویوں کی بنیاد پر دیا جائے تو کچھ لوگ، لوگوں کی جان اور مال تک کا دعوی کرنے لگیں لیکن، دعوی کرنے والے کو دلیل پیش کرنی ہے اور انکار کرنے والے کو قسم کھانی ہے"

[صحیح] [اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر لوگوں کو دلائل اور قرائن کی پڑتال کیے بغیر محض ان کے دعوے کی بنیاد پر دیا جائے لگے، تو کچھ لوگ لوگوں کے اموال اور جان تک کا دعوی کرنے لگیں لہذا مدعی کو اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنے ہوگی اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو، تو دعوے کو مدعی علیہ کے سامنے رکھا جائے گا اگر اس نے انکار کر دیا، تو اسے قسم کھانی ہوگی اس کے بعد وہ بری ہو جائے گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4722>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

